

## روزہ اور اس کی حکمتیں

اسلام کے پانچ بنیادی اركان میں سے روزہ تیسرا کہا ہے، جسے عربی زبان میں "صوم" کہا جاتا ہے۔ صوم کے لغوی معنے چپ بہنسے اور رکھنے کے ہیں۔ نفسانی خواہشوں اور ہواہ ہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، حرص و آرزوں کی دینیتیں صبر و ضبط سے کام لیتا اور طبع و لایحے سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا۔ ایک وقت مقررہ اور مذکورہ میتھتہ تک کھاتے پینے اور "اذدواجی تعلقات" سے احتراز کرنا شریعت اسلامی کی رو سے "روزہ" کہلاتا ہے۔ علاوہ ایسی روزیں میں زبان کو فضول یا توں سے روکنا اور کسی کی غیبت اور بدگوئی سے پہنچا بھی ضروری ہے۔ الگ کوئی غلط و ریکیم زبان میں بات کرے تو اسی انداز سے اس کا جواب نہ دیا جائے، بلکہ کہا جائے کہ: انا صائم۔

میں روز سے سے ہوں۔

روز سے کی ابتداء کب ہوئی؟ اس کے متعلق الگ چہ کچھ کہنا مشکل ہے، تاہم قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ۝ (البقرہ: ۱۸۲)

مسلمانو! تم پر روزے اسی طرح فرض ٹھہرائے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض ٹھہرائے گئے تھے، تاکہ تم پر ہمہ مکار بتو۔

اس آیت میں وضاحت کردی گئی ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے خاص نہیں

بلکہ اسلام سے پہلے بھی تمام مذاہب میں کسی شخصی شکل میں روزے کا سلسہ جاری رہا ہے۔ اس کے اصول اور طریقہ اگرچہ مختلف ملکوں اور قوموں میں مختلف تھے، تاہم ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے یہ ہر جگہ موجود تھا اور موجود ہے۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ہندوستان کے یہاں ہندی میں کیا ہر گیارہ اور بارہ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اس طرح سال میں وہ بھی میں روزے کے پورے کرتے تھے جو انہوں نے اپنے آپ پر ضروری قرار دے لیے تھے۔

بعض یہاں کاٹ کے میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، یعنی سال میں ان کے چار یا پانچ روزے ہوتے تھے، جن کا رکھنا ان کے نزدیک فرض ہتا۔

ہندو بھوگی چلہ کشی کرتے تھے، یعنی چالیس روزہ کا کھانے پینے سے پرایہز کرتے تھے، اب بھی وہ اپنی اس مذہبی اس پر عمل پیرا ہے۔

جیتنی مذہب ہندوستان کے ہندوؤں کے ایک فرقے کا مشہور مذہب ہے۔ ان کا ایک روزہ چالیس چالیس دن کا ہوتا ہے۔

جیتنی وحصہ کے بعض لوگ ہر سال کمی گئی ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔

یونان میں صرف عورتی روزہ رکھتی تھیں جوان کے میں کی تیسری تاریخ کو رکھا جاتا تھا۔

قدیم مصر کے باشندے بھی روزے کو اپنے مذہبی تواروں میں شامل کرتے تھے۔

پارسیوں کے ہاں بھی خاص شکل میں روزے کا ثبوت ملتا ہے، جوان کے مذہبی رہنماؤں پر فرض تھا۔

یہودی بھی روزے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ ان کا فقط انظر ہے کہ حضرت موسیٰ نے چالیس دن کوہ طور پر کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور یہو کسی پیاس سے رہتے تھے، لہذا ان کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا بہتر عمل ہے۔ البته چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے اور یہ وہ دن ہے جو ان کے ساتوں میں کی وجہ سے تشرین کا جاتا ہے اوسیں تاریخ کو پڑتا ہے۔ اسی لیے وہ اسے عاشورا (دسوال) کہتے ہیں۔ اسی دن حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے

تورات کے دس احکام عظیم کے گئے تھے، جو احکام عشرہ کے نام سے موسوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تورات میں اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دن کے علاوہ صاحاف یہود میں بعض دوسرے روزوں کا حکم بھی مذکور ہے۔

عیسائی مذہب میں بھی روزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنگل میں چالیس دن تک روزے رکھے تھے۔

حضرت یحییٰ بھی روزے رکھتے تھے اور ان کے پیروکار بھی روزے دار تھے۔

یہودوں کے متعلق متفق ہے کہ انہوں نے مختلف ادوار میں پیش آئے والے بعض واقعات کی یادگاریں غم کے روزے ڈر کھتے تھے اور اس غم کے اطمینان کے لیے وہ اپنے پھر پے پر اسی اور غم کی کیفیت طاری کر لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غم کے ان مخصوصی روزوں سے لوگوں کو روک دیا تھا۔

ظهور اسلام سے قبل عرب کے لوگ بھی روزے سے آشنا تھے پہنچنے پر قریش مکہ دورِ حاصلیت میں دسویں محرم (یعنی عاشورا) کو روزہ رکھتے تھے، اسی لیے کہ اس دن بیت اللہ پرینا غلاف ڈالا جاتا تھا۔

مریخ میں یہودی اپنا اللہ عاشورا مناتے تھے۔ وہ اپنے ساتوں حصے کی دوسری تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔

واقعات کے اس تصریح سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ ارشاد فرمایا

گیا ہے کہ:

كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْحِيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الْأَذْيَانِ مِنْ قِبْلَكُمْ۔

(مسلمانوں! تم پر روزے اسی طرح فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے۔)

بالکل صحیح ہے، جس کی گواہی تاریخ دے رہی ہے۔

اسلام اور دیگر مذاہب میں روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ چند الفاظ میں اسی کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کو تائید کی گئی ہے کہ جہاں تک

مکن ہو وہ اپنی روحانی اور باطنی کشافتیں اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی حد تک اکل و شرب سے اجتناب کریں۔ پھر فتنہ رفتہ اس منزل پر سچنے کی کوشش کریں کہ ان کی ضروریات کا دائرہ کم اور ان کی حرص و آذ کا دامن تنگ ہو جائے۔ اگر یہ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو انسان بہت سی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی سادگی اور قناعت میں بدل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روحانیت کا دائرة و سعت اختیار کر لتا ہے اور اسے عالم ناسوت میں رہتے ہوئے عالمِ ملکوت کی جھلک دکھانی دینے لگتی ہے۔

انسان تک پانچ مختلف ضرورتوں اور گوتاگوں ان غرض و مقاصد کا اپنے گرد و پیش لاتا ہے سلسہ قائم کر لیا ہے۔ اس کے تہام خانہ دل میں تمناؤں کا ایک انتار ہے اور ذہن میں خواہشوں کی ایک دینی آباد ہے۔ اگر اس سے دل خالی کر لیا جائے اور ذہن سے غیر ضروری اشیا کے حصول کی آرزوؤں کو رکمال دیا جائے تو معاملات بہت حد تک سدھ رہتے ہیں۔ روزہ انسان کو یہی سبق دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ معاشرے کے بھوکے اور غریب و مسیئین اور یہے سما لا لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور تلب و نظر کو تقوے کی نعمت سے آشنا کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔

تقویٰ کیا ہے۔ ؎ تقوے کا اعلق عمومی طور پر قلبی اور باطنی عبادات سے ہے۔ صبر، شکر، اخلاص، توکل، قناعت اور تقویٰ، یہ سب وہ عبادات ہیں جو انسان کے دل، ضمیر، روح اور باطن سے اعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے جہاں ظاہری عبادات یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، جماد وغیرہ کا حکم دیا ہے، وہاں صابر و شاکر اور متوكل و قانع رہتے اور تقویٰ شعار ہونے کی بھی تائید فرمائی ہے۔

تقویٰ، انسان کے ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جو انسان کے باطن میں شیر و شر کی تمیز پیدا کرتا، یہ اپنی سے روکتا، نیکی کی رغبت دلاتا، خواہشات کے دامن کو محروم کرنے اور انسان کو جذبات کے طوفانوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بتلتا ہے۔ قرآن کے زیادیک روزے کی اصل غرض و غایت یہی ہے، جسے وہ **لَعْلَكُمْ تَنَقَّوْنَ** سے تعبیر کرتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں زیادہ تر مسلمانوں کی زندگی جھوک پر اس

میں گز تی تھی، لہذا ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کا انھیں بارگاہِ الٰہی سے ثواب بھی ملتا رہے اور وہ فاقہ کشی کے خواجہ بھی ہو جائیں۔

یہ نقطہ نظر حقیقت سے دور ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ظہورِ اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو بہت سی پریشانیوں میں بٹلکار دیا تھا اور عرب کی سر زمین میں اس وقت حصولِ رزق اور کسبِ معاش کے جو معمولی ذرائع تھے، ان سے وہ بڑی حد تک غیر مطمئن بلکہ خودم ہو گئے تھے۔ متعدد قبائل نے ان کا اقتصادی یا یہ کھاٹ کر دیا تھا اور ان سے تدنی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ بالفاظ دیگر مکی زندگی مسلمانوں کے لیے انتہائی مصائب و آلام کی زندگی تھی، جس کا موجودہ دور میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ زندگی کی گاڑی کو روای دوال رکھنے کے ساز و سامان مفقود تھے اور مخالفین کے ظلم و استبداد نے ان کے لیے آگے بڑھنے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہی میں ان پر روزے فرض نہیں کیے گئے۔

روزے ۲، بھری میں مدینہ منورہ میں فرض قرار دیے گئے، جب کہ مسلمانوں کو مخالفین کے ہمراو ستم سے نجات حاصل ہو چکی تھی اور انصار کے ایشارہ نفس کی وجہ سے ان کے لیے حصولِ رزق کے دروازے ٹھُٹھے چکے تھے۔ علاوہ اذیں اللہ کی طرف سے جنگ و جہاد کی اجرات کے باعث فتوحات کا سلسہ بھی شروع ہو گیا تھا اور اسی میں روز بروز وسعت پیدا ہو رہی تھی۔ اس وسعت کی بنا پر صحابہ کو مالِ غنیمت بھی حاصل ہونے لگا تھا اور مالی اعتیار سے ان کے حالات بالکل بدل گئے تھے۔ اس دور میں اسی لیے روزہ فرض ہوا کہ مسلمان مال و دولت کے سرست انگریز لمحوں میں غربت و تنگ وستی کو بھول نہ جائیں اور فاقہ مسٹوں سے قطیع علاقہ نہ کر لیں۔ اس فرض کے پیدا ہونے سے پہلے پرمیز کی ضرورت تھی اور یہ پرمیز روزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس یہے روزہ حالتِ غربت اور دولت مسکت میں نہیں بلکہ عمدہ تموئیل اور زمانہ دولت میں فرض مکمل ہیا گیا۔ پرمیز کی ضرورت بسیار خوروں کو پہے نہ کہ فرقہ فاقہ میں لیسہ اوقات کرنے والوں کو۔!

امام این قیم نے زادِ المعاد میں روزے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رغباتِ شہوانیہ کا ترک کر دینا انتہائی مشکل کام تھا، اس لیے روزہ و سلطہِ اسلام میں فرض کیا گیا ہے جب کہ مسلمان توحید پر عمل کرنے لگے تھے، نماز کے عادی ہو چکے تھے اور قرآن کے احکام و ادامر کو

اچھی طرح سمجھتے لگے تھے۔ روزے کے احکام کا اضافہ اسی دور کے لیے موت و میتھا۔  
 اسلامی عبادات و احکام کا جو چونکہ اللہ اور اس کے رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم)  
 نے ترتیب دیا ہے، اس میں کوئی عبادت اور کوئی حکم ایسا نہیں جس سے انسان کو بدلائے  
 تکلیف کرنا مقصود ہو۔ روزے میں بھی یہی اصول کارفرمہے۔ اسلام سے پہلے اس میں سختی اور  
 تکلیف کا جو پہلو پایا جاتا تھا، اسلام نے اس کو کسی ختم کر دیا۔ اس لیے کہ غشائے الہی سولت  
 اور آسمانی پیدا کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو ایکلا و مصیبت میں ڈالنا۔ چنانچہ فرضیت روزہ کے بارے  
 میں قرآن تے واضح الفاظ میں فرمایا۔

یوید اللہ یکم الیسر و لا یوید بکم الاعسر (البقرہ: ۱۸۵)

رخ انحراف سے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا)  
 دور اول کے روزے کی سختیوں کو اسلام نے جس حد تک ختم کیا اور اس میں جو آسانیاں  
 اور سولتیں پیدا کیں، اس کا اندازہ ذیل کی چند مثالوں سے ہو سکتا ہے۔

۱۔ ظہور اسلام سے قبل مختلف مذاہب میں یہ روایت چلی آرہی تھی کہ روزہ صرف اتنی  
 لوگوں پر فرض سمجھا جاتا تھا جن کو اصحاب مذہب اپنا پیشواؤ قرار دیتے تھے۔ مثلاً ہندوؤں میں  
 روزہ یہ ہمنوں کے لیے رکھنا ضروری تھا، غیر برہمنوں کے لیے ضروری نہ تھا، پارسیوں میں فقط  
 ان کے مذہبی سربراہ روزے کے پابند تھے۔ اہل یونان میں محض عورتوں پر روزہ فرضی تھا لیکن  
 اسلام نے پیشواؤ اور غیر پیشواؤ، مرد اور عورت یا ایڑے سے اور جھوٹے کے درمیان یا امتیاز ختم کر دیا۔  
 اس نے تمام مسلمانوں کو روزے کا حکم دیا اور فرمایا:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصْمِمْهُ (البقرہ: ۱۸۵)

(تم میں سے جو شخص رمضان کے نیشنے میں زندہ ہے اور گھر میں موجود ہے، وہ  
 روزہ رکھے)

۲۔ یہودیوں کے ہاں یہ حکم تھا کہ جو شخص روزہ نہ رکھے، اگرچہ وہ کسی حالت میں ہو، اسے قتل  
 کر دیا جائے۔ اگر کسی یہودی کے گھر کوئی موہان آ جاتا، بے شک اس کا تعلق یہودی مذہب سے  
 نہ ہوتا، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری تھا۔ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں وہ واجب القتل

قرار پاتا۔ لیکن قرآن نے اس سختی کو ختم کر دیا۔ اس نے بیمار، مسافر اور بولڈھے کو روزے سے مستثنی فرمادیا اور حکم دیا:

**فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَذَّلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ (البقرة: ۱۸۷)**

(جو کوئی تم میں بیمار ہو یا مسافر ہو، وہ رمضان کے بعد اور دنوں میں روزہ رکھ لے)

۳ - بعض مذاہب میں بتایا گیا ہے کہ خواہ لکنی بھی تکلیف اور دشواری کا سامنا ہو، روزہ بہر حال رکھنا پڑے گا۔ تاریک روزہ کا نہ کوئی عذر قبول کیا جا سکتا تھا اور نہ اس سے فدیہ لیا جا سکتا تھا۔ لیکن اسلام نے یہ سختی ختم کر کے معدود روزے کے لیے آسانی فراہم کر دی اور فرمایا:

**وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فَدِيَةٌ طَعَامٌ مَسْكِينٍ (البقرة: ۱۸۸)**

(جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، ان کے ذمے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے)

۴ - بعض حالتوں میں عورتوں کو روزے سے مستثنی قرار دے دیا، جیسا کہ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

**أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُلْ ضَعَ الصَّوْمَ -**

(اللہ تعالیٰ نے حاملہ اور دو دھپلاتے والی سے روزے کی ذمے داری انھادی)

۵ - ہندوستان میں جیمن مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا ایک ایک روزہ (جیسے برتر کما جاتا تھا) چار چار پانچ پانچ ہفتوں کا ہوتا تھا۔ عرب کے پہاڑوں اور صحرائوں میں عبادات کرنے والے عیسائی راہب روزے کے نام سے کئی کئی دن بھوکے پیاس سے رہتے تھے۔ بعض مذاہب میں چالیس چالیس روز کے ناقے کو روزے سے تبیر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس میں توازن اور تو سط کی راہ پیدا کی اور صرف ایک میسٹنے کے روزے مقرر کیے۔ اس باب میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔

**أَيَّامًا مَمْعُدُ وَذَاتٍ (البقرة: ۱۸۹)**

(یعنی لگنی کے چند روز)

سال کے تین سو پیسہ ٹھنڈوں میں سے صرف انتیس یا تیس دن ہو یعنی تکلیف اور مشقت کے آسانی سے گز جاتے ہیں۔

۶ - یہودی دن رات کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اسلام نے اس طریقے کو غلط قرار دیا اور حکم دیا کہ صرف

طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھا جائے۔ فرمایا ہے

اتموا الصیام الی ایل (البقرہ ۱۸۶)

(روزے کے کورات شروع ہونے تک پورا کرو)

۔ عرب کے میودیوں کا یہ معمول تھا کہ روزہ افطار کرتے وقت حرف ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد ان کے دوسرے روتے کا آغاز ہو جاتا تھا۔ مشترکین عرب میں چو لوگ روزے کے قائل تھے، ان میں یہ رواج چلا آرہا تھا کہ سونے سے پہلے جو کچھ کھالیا، بس کھالیا، سو جانے کے بعد ان کے نزدیک کھنا چاہرہ تھا۔ اسلام کے ابتدائی دوسریں بھی اس پر عمل ہوتا رہا، ایک مرتبہ رمضان کے ہیئتے میں ایک صحابی کے ٹھر میں شام کا کھانا تیار نہیں ہوا تھا اور ان کی بیوی کھان پکار بھی تھیں کہ وہ سو گئے۔ کھاتا تیار ہونے کے بعد بیوی کھان لے کر آئیں تو دیکھا کہ شوہر سوچ کر ہے اس، اب وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ دوسرے دن ان کا پھر روزہ تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اس رواج کو ختم کر دیا اور غروب آفتاب سے اختتامِ حری تک کھانے پینے کی اجازت محنت فرمادی ۔

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخِيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخِيطِ الْأَسْوَدِ

من الفجر (البقرہ ۱۸۶)

(اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری

سے الگ نمایاں ہو جائے)

۔ بعض مذاہب میں روزے کی حالت میں بھول کر کھان بھی تاقابلِ معافی تھا لیکن اسلام نے اس کی نقی کردی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔

مِنْ أَكْلِ أَوْ شُرْبِ نَاسِيًّا فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا هُوَ ذَرَقُ اللَّهِ ۔

(جو روزے وال بھول چوک کر کوئی چیز کھلے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،

اس لیے کہ یہ چیز تو اس کو اللہ نے عطا فرمائی تھی)

متعدد مذہبیں میں تمسمی سال کے مقابلہ تمہار منکرے جلتے ہیں۔ ان کے رونے اور

برت مجھی شمسی میں ہوں اور تاریخوں کے حساب سے رکھتے جاتے ہیں، جن میں ایک خاص موسم  
متعین ہوتا ہے، مگر جی کا موسم یا سر دی کا۔ لیکن اسلام نے قمری میتے (رمضان) کا تعین  
کیا جو کبھی گر میں آتا ہے، کبھی سر دیوں میں، اور کبھی معتدل موسم میں۔ اس طرح اعتدال کی  
ایک صورت قائم رہتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
ایک صوم والرؤیتہ وافطہ والرؤیتہ -

(چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روز سے رکھتا ہند کرو)

ایسے مذاہب بھی ہیں جن میں روزے یا برت کے دوران پھل کھلانے اور دودھ وغیرہ پینے  
کی تواجازت ہے، مگر چوڑھپر پکی ہوئی غلٹی کی کوئی شے کھانا منوع ہے۔ اسلام نے اس کو  
ختم کر دیا اور فرمایا حالتِ روزہ میں کسی شے کے کھلانے پینے کی اجازت نہیں۔

اسلام کے احکام میں ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اس میں غربوں، مسکینوں، محتابوں  
اور قادر زدہ لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے۔ روزے پر غور کیجیے تو اس میں یہ اشارہ  
موجود ہے کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے کم از کم ایک میتے میں کھانے پینے میں کمی کرو اور پسند  
بجائے مستحق لوگوں کا خیال رکھو، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرو اور ان کے کام آؤ۔ خود کسی  
معذوری کی وجہ سے روزہ ترکھ سکو تو مسکینوں کو کھانا کھلاو۔

اسی طرح حج کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کسی عذر یا بیماری کے باعث احرام سے پہلے سر  
منڈادو تو روزہ رکھو یا خیرات کرو یا قربانی کا فدیہ دو۔ جو لوگ ایک احرام میں حج اور عمرہ کریں  
جسے "تمتع" کہا جاتا ہے، ان پر قربانی دینا واجب ہے اور یہ قربانی غربوں میں تقسیم کی جائے گی۔  
اگر قربانی دینے کی استطاعت نہ ہو تو دس روزے رکھیں، تین حج میں اور سبات گھر آگز۔

اسی طرح حج کے مو قسم پر جانور کا شکار کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، لیکن اگر  
کوئی شخص جان بوجھ کر شکار کرے تو ضروری ہے کہ وہ شکار کیے گئے جانور کے برابر کے جانور  
کی قربانی کرے، اس جانور کو منی میں لے جا کر ذبح کیا جاتے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے کھا سکیں۔  
اگر قربانی نہ کر سکے تو قرآن کتلتا ہے۔

اوْكَفَادَةً طَعَامُ مَسْكِينَ أَوْعَدَلُ ذِلِكَ صِيَامًا (المائدہ: ۹۵)

ریا کفارہ دے اور کفارہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کے مطابق مسکینوں کو کھانا کھلاتے یا  
چھر مسکینوں کی لگتی کے برابر روزے رکھے)۔

اگر کوئی شخص قسم توڑ دے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے یا ایک غلام آزاد کرے۔  
اگر یہ نہ ہو سکے تو تین دن کے روزے رکھے۔

ان چند احکام شرعیہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے غرباً و مساکین کا کس قدر  
خیال رکھتا ہے۔ خود روزے داروں کو بھی غربیوں پر خرچ کرنے کی تائید کی گئی ہے۔ جہاں  
روزے میں عبادات پر زور دیا گیا ہے، وہاں حاجت مندوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی تائید  
فرمان گئی ہے۔

صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے اسی لیے ادا کرنا ضروری ہے کہ مستحق اور نادار لوگوں کی کچھ  
مد ہو جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔

روزے میں بہت سی حکومیں پہنچاں ہیں۔ روزہ امیروں اور شکم سیروں کو توجہ دلاتا ہے  
کہ فاقہ میں کتنی تکلیف اور اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ اس طبقے کو احساس  
دلاتا ہے کہ اپنے غریب اور نادار بھائیوں کا خیال رکھیں اور بھوک پیاس میں زندگی  
بس رکنے والے دکھنیوالوں کے لیے اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔

روزہ ان کو یہ بھی سبق دلتا ہے کہ انسان انقلاب و تغیر کی زد میں آکر بھی غربت و  
افلاس سے بھی دوچار ہو سکتا ہے، اسے اپنے آپ کو سختیوں کا خونگرا اور مشکلات کا  
عادی نہ ناچاہیے تاکہ صبر و ضبط اور تحمل و برداری سے حالات کا مقابلہ کر سکے۔

میدانِ جنگ میں یا سفر میں وہ بہت سے ناخوش گوار اور تکلیف وہ حالات کا  
شکار ہو سکتا ہے، روزہ اس کو قوت برداشت کا عادی بتاتا ہے۔

جسمانی صحت کے لیے بھی روزہ فائدہ مند ہے۔ بعض بیماریاں بیسارخوری اور اہل و شریب  
میں سے احتیاطی سے پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کل عیش پرستوں کا شیوه ہے، اس سے  
عیند، خوارب ہو جاتا ہے اور نظام ہضم میں کمزوری کے آثار اُبھر آتے ہیں۔ روزہ اس کا  
عیند ہے۔

روزے کی حالت میں قدرتی طور پر انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف پہلتا اور بُرائی سے محفوظ رہنے کی سعی کرتا ہے۔ اعمال بدپر نادم ہوتا، معصیت سے توبہ کرتا اور تاروا امور کے ارتکاب سے حق الامکان کنارہ کش رہتا ہے۔ یہ مہینہ عبادات اور ذکرِ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں تراویح کا التزام کیا جاتا ہے اور دنیا کے معاملات سے الگ ہو کر اعتکاف کی حالت میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اس مہینے میں اپنے ماں سے زکاۃ نکالنا و سرے مہینوں کی نسبت زیادہ ایزو و ثواب کا باعث ہے اور غرباً و مسکین پر خیرات کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں توہر روز لوگوں پر خرچ کرتے تھے اور جو کچھ اپنے پاس ہوتا مستحقین کو عطا فرمادیتے تھے، مگر رمضان کے مہینے میں تو آپ کی فیاضی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔

روزے کو قرآن نے تقوے کی بنیاد تراویدیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی عبادات ہے جس کا کسی پر اظہار نہیں ہوتا۔ یہ یا ک فاموش عبادات ہے جو ریا و منماش سے پاک ہے۔ جب تک انسان خود نہ بتائے، کسی کو اس کا پتا نہیں چلتا۔ وہ منایت خوش قسمت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور تقوی شعاری کی صاف ستری راہ پر لکایا۔

---